

Chapter-01

1. TOLERANCE OF THE RASOOL

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری / برداشت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

Learning Outcomes: مقاصد تدریس

After completing this lesson, the students will be able to:

- make nouns from the verbs
- identify and use suffix
- change sentences into negative and interrogative

یہ سبق مکمل کر کے طلباء اس قابل ہوں گے کہ
افعال سے اسماء بنا سکیں گے
لا حقی کی پہچان کر کے استعمال کر سکیں گے
جملوں کو منفی اور سوالیہ میں تبدیل کر سکیں گے

Pre-reading: سبق پڑھنے سے پہلے

1. Do you know the meaning of tolerance?

Ans. Tolerance is to bear things that we do not like. کیا آپ tolerance کا معنی جانتے ہیں؟
جن چیزوں کو ہم ناپسند کریں ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔

2. Can you recall an incident of tolerance from the life of the Rasool?

Ans. Yes, I can recall an incident of tolerance from the life of the Rasool.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں برداشت کا ایک واقعہ یاد ہے۔

TEXT

1. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. It also means to bear things you do not like. For example, when you are in a position to take revenge, but you do not do so, you are displaying tolerance. The greatest tolerance was practised by our Rasool.

بردباری کا مطلب صبر کے ساتھ دکھ یا مصائب برداشت کرنا ہے۔ اس کا مطلب ایسی چیزوں کو برداشت کرنا بھی ہے جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوں لیکن آپ بدلہ نہیں لیتے تو آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عظیم ترین بردباری کی مشق ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔

Q. Have you ever shown tolerance practically?

Ans. Yes, I have shown tolerance practically. کیا آپ نے کبھی عملی طور پر بردباری دکھائی ہے؟
ہاں میں نے عملی طور پر بردباری دکھائی ہے۔

Words	Pronunciation	Synonyms	Antonyms
Tolerance(n)	/'tɒl.ər.əns/	ثبات ریش	intolerance
Pain(n)	/'peɪn/	پین	peace
Hardships(n)	/'hɑ:d.ʃɪp/	ہارڈ شپس	ease
Patience(n)	/'peɪ.ʃəns/	پے شنس	impatience
Bear(v)	/'beər/	بی ار	avoid
Revenge(n)	/'rɪ'vendʒ/	ری ونج	favour
Display(n)	/'di'spleɪ/	ڈس پلے	conceal
Practise(v)	/'præk.tɪs/	پری کٹس	put off

2. The Rasool is a model of tolerance for anyone. Hazrat Ayesha never wished ill for anyone. Hazrat Ayesha never took revenge upon anyone. Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. At the conquest of Makkah the Rasool not only forgave him but also honoured him by declaring amnesty for those who took refuge in his house.

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردباری کی مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے برائہ چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ مسلمان ہونے سے قبل ابوسفیان اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے گھر میں پناہ لینے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے ان کو عزت بھی بخشی۔

Q. What do you understand by the word amnesty?

Ans. Amnesty means general pardon of convicts.

لفظ amnesty سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
amnesty کا مطلب مجرموں کی عام معافی ہے۔

I. Tolerance of the Rasool ﷺ

Words	Pronunciation	Synonyms	Antonyms	
Model(n)	/ˈmɒd.əl/	مثال	example	مثال کے برعکس
Tolerance(n)	/ˈtɒl.ə.ɪ.əns/	دراگزرانس	forbearance	intolerance
Never(adv)	/ˈnev.ə/	نہیں	not ever	ever, always
Wish(v)	/wɪʃ/	چاہنا	like	ignore
Ill(adj)	/ɪl/	بہتر	evil	good
Revenge(n)	/riˈvendʒ/	انتقام	requital	favour
Worst(adj)	/wɜːst/	سب سے	bitterest	best
conquest(n)	/ˈkɒŋ.kwɛst/	کھٹ	victory	defeat
Forgive(v)	/fɔːɡɪv/	بخشنا	let go	take revenge
Honour(v)	/ˈɒn.ər/	احترام	respect	punish
Declare(v)	/dɪˈkleər/	اخبار	pronounce	keep silence
Amnesty(bn)	/ˈæm.nɪ.sti/	اکمپسٹ	general pardon	open revenge
Refuge(n)	/ˈref.judʒ/	ملاذمت	shelter	captivity

3. When the Rasool ﷺ went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. Hazrat Jibrael عليه السلام asked the Rasool ﷺ on the occasion of trial "O, Muhammad speak, if you so wish, I will destroy them." The Rasool replied, "O Gracious and Merciful Allah, show them the right path, for they do not know what they are doing. They do not recognize me. They do not know I am Muhammad the Rasool of Allah. Make it known to them that I am their great well-wisher." We should follow the teachings of our Rasool ﷺ. We learn from his life how much tolerance he practised. The Rasool ﷺ showed great tolerance throughout his life. He even prayed for his enemies and for those who troubled him.

جب رسول کریم ﷺ نے تائف میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تائف تک پہنچے تو ان کے وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر سے پھینکا اور آپ کی آنکھوں پر پتھر مارا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل نے رسول کریم ﷺ سے فرمایا کہ "اے محمد ﷺ، اگر تم چاہو تو میں ان کو تباہ کر دوں گا۔" رسول کریم ﷺ نے جواب دیا "اے رحیم اور مہربان اللہ! ان کو سیدھے راستے کی بات دکھا دے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ ہوں۔ ان پر واضح کر دیجئے کہ میں ان کا سب سے بڑا خواہ مخواہ ہوں۔ ہمیں اپنے رسول کریم کی تعلیمات کو اپنا کرنا چاہیے۔ ہم ان کی زندگی سے پیچھے ہیں کہ آپ کس قدر بڑی رحمت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ رسول کریم ﷺ نے ان کے لیے اپنی زندگی جانی قربانی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے، تاکہ ان کو سزا سے محفوظ رکھیں اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔"

Q. Who went to Taif to preach Islam?

Ans. The Rasool ﷺ went to Taif to preach Islam.

سوال: کون کون گیا تائف؟
 جواب: رسول کریم ﷺ نے تائف میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔

Words	Pronunciation	Synonyms	Antonyms	
Go(v)	/ɡəʊ/	جانا	move	come
Taif(n)	/tɑːɪf/	تائف	name of a place	stop
Preach(v)	/pri:tʃ/	پہنچانا	promote	shun
People(n)	/ˈpiː.əl/	لوگ	inhabitants	peace
Stone(n)	/stəʊn/	پتھر	gravels	silence
Ask(v)	/ɑːsk/	پوچھنا	inquire	
Occasion(n)	/əˈkeɪ.ʒən/	موقع	eve	
Trial(n)	/traɪəl/	تجربہ	test	
Speak(v)	/spiːk/	بولنا	letter, words	

Destroy(v)	/di'strɔɪ/	ڈسٹروئے	ruin	تباہ کرنا	protect	حفاظت کرنا
Reply(v)	/ri'plai/	رہنمائے	answer	جواب دینا	keep silence	خاموش رہنا
Gracious	/'greɪ.ʃəs/	گرے شس	kind	رحیم	cruel	ظالم
Merciful	/'mɜː.sɪ.fəl/	مرسی فل	kind	مہربان، کریم	oppressor	ظالم
Right(adj)	/raɪt/	رائٹ	correct	سیدھا	wrong	غلط
Path(n)	/pɑːθ/	پاتھ	passage	رستہ		
For(conj)	/fɔːr/	فار	because	چونکہ	hence	اس لیے
Know(v)	/nəʊ/	نو	learn	جاننا، واضح کرنا	forget	بھولنا
Recognize(v)	/'rek.əg.naɪz/	ریکنا ئز	distinguish	پہچاننا	mix	خلط ملط کرنا
Well-wisher(adj)	/'wel.wɪʃ.ər/	ویل دشر	benefactor	خیر خواہ	antagonist	مخالف
Follow(v)	/'fɔː.ləʊ/	فالو	act upon	عمل کرنا	disobey	نافرمانی کرنا
Teachings(n)	/'tiː.tʃɪŋz/	ٹی ٹچنگز	words	تعلیمات		
Learn(v)	/'iː.n/	لرن	know	سیکھنا	forget	بھلا دینا
How(adj)	/haʊ/	ہاؤ		کس قدر		
Tolerance(n)	/'tɒl.ər.əns/	ٹالرنس	forbearance	بردباری، برداشت	impatience	بے صبری
Practise(v)	/'præk.tɪs/	پریکٹس	follow	عمل کرنا، مشق کرنا	ignore	نظر انداز کرنا
Show(v)	/ʃəʊ/	شو	display	مظاہرہ کرنا	conceal	چھپانا
Throughout	/θruː'ɔːt/	تھر آؤٹ	all	کامل	partially	قدرے
Even(adj)	/'iː.vən/	ای وون		جہاں تک، بھی		
Pray(v)	/preɪ/	پریے	bless	دعا کرنا	curse	بددعا دینا
Enemies(adj)	/'en.ə.mɪz/	این می ز	foes	دشمن	friends	دوست
Trouble(n)	/'trʌb.l/	ٹریبل	pester	تکلیف دینا	solace	سکون دینا

4. In his last address خطبہ, the Rasool ﷺ said, "Revenge بدلہ for bloodshed بہا خون, as was the custom رسم in the days of ignorance جہالت before Islam, is forbidden ممنوع. I forgive معاف کر those who murdered قتل کیا my cousin, Ibne-Rabiah". Hazrat Ans Bin Malik said, "I served خدمت کی of Allah ﷻ for 10 years. By Allah, he ﷻ never کبھی نہیں objected اعتراض کیا to anything I said or did".

اپنے آخری خطبے میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس طرح اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں (خون کا بدلہ لینے کا) رواج تھا (اب) خون کا بدلہ ممنوع ہے۔ میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیعہ کو قتل کیا تھا۔" حضرت انس بن مالک نے فرمایا "میں نے دس سال رسول خدا ﷺ کی خدمت کی۔ اللہ کی قسم میں جو بھی کہتا یا کرتا آپ ﷺ نے اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔"

Q. How long did Hazrat Ans Bin Malik serve the Rasool ﷺ.
Ans. Hazrat Ans Bin Malik served the Rasool ﷺ for ten years.

حضرت انس بن مالک نے کتنا عرصہ رسول کریم ﷺ کی خدمت کی؟
حضرت انس بن مالک نے دس سال رسول کریم ﷺ کی خدمت کی۔

Words	Pronunciation	Synonyms	Antonyms			
Last (adj)	/lɑːst/	لاست	final	آخری	first	پہلا
Address(n)	/ə'dres/	ایڈریس	speech	خطاب، خطبہ	silence	خاموشی
Revenge(n)	/ri'vendʒ/	ری وینج	requital	بدلہ	forgiveness	معافی
Bloodshed(n)	/'blʌd.ʃed/	بلڈ شید	killing	خون خرابہ	safety	تحفظ
Custom(n)	/'kʌs.təm/	کسٹم	practice	مشق		
Ignorance(n)	/'ɪg.nər.əns/	انورنس	illiteracy	جہالت	knowledge, light	علم، روشنی

1. Tolerance of the Rasool ﷺ

Forbidden(n)	/fə'bid.ən/	فار پڑن	hampered	ممنوع	in vogue	مروج
Forgive(v)	/fə'gɪv/	فارگو	let go	معاف کرنا	avenge	بدل لینا
Murder(v)	/'mɜ:.də/	مردار	kill	قتل کرنا	protect, save	بچانا
Cousin(n)	/'kʌz.ən/	کزن		بچا زاد، ماموں زاد		
Serve(v)	/sɜ:v/	سرو	wait upon	خدمت کرنا	hate	نفرت کرنا
By Allah	/baɪ æl.ə/	ہائے اللہ		اللہ کی قسم		
Object(v)	/'ɒb.dʒɪkt/	اوبجیکٹ	oppose	امتراض کرنا	approve	پسند کرنا

5. We, as Muslims should follow اپنانا the noble عظیم example مثال of the tolerance روادری of our Rasool ﷺ. The deterioration امتشار and conflict کشمکش prevailing ہونی in the society معاشرہ is due to سے lack کی of tolerance. This menace خطرہ can only be cured کرتا by following the noble example set by our beloved پیارا Rasool Hazrat Muhammad ﷺ.

ہم مسلمان ہیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ روادری کی عظیم مثال (نمونے) پر عمل کرنا چاہیے۔ معاشرے میں پایا جانے والا امتشار اور لڑائی جھگڑا روادری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت ﷺ کی قائم کردہ اعلیٰ مثال (نمونے) پر عمل کر کے اس مصیبت کا علاج کیا جاسکتا ہے۔

Words	Pronunciation		Synonyms		Antonyms	
Follow(v)	/'fɒl.əʊ/	فالو	act upon	اپنانا، عمل کرنا	avoid	اجتناب کرنا
Noble(adj)	/'nəʊ.bl/	نوبل	grand	عظیم	low	گھٹیا
Example(n)	/'ɪɡ.zɑ:m.pl/	ایگز امپل	sample	مثال		
Tolerance(n)	/'tɒl.ər.əns/	ٹالرنس	forbearance	بروداری	impatience	بے صبری
Deterioration	/dɪ,tɪə.rɪ.ə'reɪ.ʃən/	ڈیٹیریوشن	decline	امتشار، زوال	prosperity	خوشحالی
Conflict(adj)	/'kɒn.flɪkt/	کونفلکٹ	clash	لڑائی، تضاد، کشمکش	harmony	ہم آہنگی
Prevail(v)	/'pri'veɪl/	پری ویل	work	چھا جانا، پایا جانا	shun	بچنا
Due to(conj)	/dju: tu:/	ڈیو تو	because of	کی وجہ سے		
Lack(adj)	/'læk/	لیک	deficiency	کمی	excess	زیادتی
Menace(n)	/'men.ɪs/	منیس	threat	خطرہ، مصیبت	safety	خداقت
Cure(v)	/'kjʊər/	کیور	treat	علاج کرنا	spread	پھیلنا
Beloved(adj)	/'bi'lʌv.ɪd/	بی لوفڈ	dear	پیارا	loathsome	نفرت انگیز

GLOSSARY: فرہنگ

hardship:	مشکل	something that causes suffering
display:	مظاہرہ کرنا	something shown to the people
trouble:	تکلیف	pain; difficulty
destroy:	تباہ کرنا	damage irreparable
recognize:	پہچاننا	acknowledge
patience:	صبر	the ability to bear suffering without complaining
forbidden:	ممنوع	prohibited
murder:	قتل	unlawful killing of human being
revenge:	بدلہ	deliberate punishment or injury inflicted in return for what one has suffered
conquest:	فتح	the act of conquering
socially:	معاشرتی طور پر	situations and activities that involve being with other people
custom:	رسم	a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society

objected: اعتراض کرنا say something to express one's disapproval of or disagreement

ACTIVITIES (سرگرمیاں)

A) Answer the following questions.

1. What do you mean by tolerance?

Ans. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. It also means to bear things you do not like.

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔
بردباری سے آپ کا مطلب کیا ہے؟

2. Give an example of tolerance from the life of the Rasool ﷺ.

Ans. Once the Rasool ﷺ went to Taif to preach Islam. The people there threw stones at him. Hazrat Jibrael عليه السلام offered to destroy them. But the Rasool ﷺ prayed to Allah to show them the right path because they did not recognize him.

ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لئے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو تباہ کرانے کی پیشکش کی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ان کو سیدھا راستہ دکھلائے کیونکہ وہ انہیں پہچانتے نہیں۔

3. How did the Rasool ﷺ respond to the ill-treatment of the people of Taif?

Ans. He prayed to Allah to show them the right path because they did not know that he was their great well-wisher.

4. What did Hazrat Jibrael عليه السلام ask the Rasool ﷺ when he was ill-treated by the people of Taif?

Ans. Hazrat Jibrael عليه السلام requested the Rasool ﷺ to allow him to destroy the people of Taif.

5. How did the Rasool ﷺ deal with his enemies at the conquest of Makkah?

Ans. At the conquest of Makkah, he declared amnesty for all those who took refuge in Abu Sufyan's house.

6. What did Hazrat Ans Bin Maalik رضي الله عنه say about the Rasool ﷺ?

Ans. He said that he served the Rasool ﷺ for ten years but he never objected to anything he said or did.

7. What did the Rasool ﷺ say about revenge in his last address?

Ans. He said that revenge for blood was forbidden. He forgave those who murdered his cousin Ibn e Rabi'ah.

B) Make nouns from the following verbs.

Example: die مرنے death موت

tolerate, practise, conquer, destroy, object

Verbs	Nouns
tolerate	برداشت بردباری
practise	مشق
	tolerance
	practise

conquer	فتح کرنا	conquest	
destroy	تباہ کرنا	destruction	
object	اعتراض کرنا	objection	

C. Suffix لاحقہ

The suffix 'some' means full of. The suffix 'less' means 'without'. They change nouns into adjectives.

لفظ some کا مطلب ہے "بھرا ہوا"۔ لاحقہ less کا مطلب ہے "کے بغیر"۔ یہ الفاظ nouns کو adjectives میں تبدیل کرتے ہیں۔

For example: burden - burdensome, meaning-meaningless.

Add suffix 'some' and 'less' to the following words to make them adjectives, also use them into sentences.

اساتر کے الفاظ کے اسم صفت بنانے کے لئے some اور less کے لاحقے لگائیں۔ انہیں جملوں میں بھی استعمال کریں۔

lone		lonesome	اداس	flaw		flawless	بے عیب
loath		loathsome	قابل نفرت	thank		thankless	بے شکر
bother	some	bothersome	باعث زحمت	law	less	lawless	غیر قانونی
trouble		troublesome	تکلیف دہ	worth		worthless	بے کار
irk		irksome	اکتا دینے والا	hope		hopeless	مایوس

1. **lonesome** اداس : He seemed very lonesome. (اس کا نظریہ نظر آتا تھا۔)
2. **loathsome** قابل نفرت : His comments were loathsome. (اس کا تبصرہ قابل نفرت تھا۔)
3. **bothersome** باعث زحمت : We should avoid bothersome deeds. (ہمیں باعث زحمت اعمال سے بچنا چاہئے۔)
4. **troublesome** تکلیف دہ : His remarks were troublesome. (اس کا تبصرہ تکلیف دہ تھا۔)
5. **irksome** اکتا دینے والا : The play was irksome. (ڈراما اکتا دینے والا تھا۔)
6. **flawless** بے عیب : His character is flawless. (اس کا کردار بے عیب ہے۔)
7. **thankless** بے شکر : We should not be thankless to Allah. (ہمیں اللہ کے بے شکرے نہیں ہونا چاہئے۔)
8. **lawless** غیر قانونی : This step is lawless. (یہ اقدام غیر قانونی ہے۔)
9. **worthless** بے کار : His effort was worthless. (اس کی کوشش بے کار تھی۔)
10. **hopeless** مایوس : The patient was hopeless of life. (مریض زندگی سے مایوس تھا۔)

D. Fill in the blanks with suitable words from the text.

1. _____ means to bear pain or hardships with patience. **(tolerance)** (جہالت سے مناسب الفاظ لے کر خالی جگہ پر کریں۔)
2. The Rasool ﷺ is a _____ of tolerance. **(model)** (_____ کا مطلب ہے صبر سے تکلیف یا مشکلات برداشت کرنا۔)
3. Hazrat Ayesha رضي الله عنها said that the Rasool ﷺ never took _____ upon anyone. **(revenge)** (رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دہاری کا۔۔۔۔۔ تھے۔)
4. The Rasool ﷺ went to _____ to preach Islam. **Taif** (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم نے کبھی کسی سے _____ نہیں لیا۔)
5. In his last address, the Rasool ﷺ said. "_____ for bloodshed is forbidden. **(revenge)** (رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے۔۔۔۔۔ گئے۔)

E. Oral Communication Skills

Asghar: Why were you fighting with Imran?

Aslam: He has taken my pen. He is not giving it back to me now.

تم عمران سے کیوں لڑ رہے تھے؟

Asghar: You should not fight with him instead we should try to find it out.

اس نے میرا قلم لے لیا ہے۔ وہ مجھے واپس نہیں دے رہا ہے۔

Imran: I had placed the pen on the desk and now it is not there. آپ کو اس سے لڑنا نہیں چاہئے بلکہ ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔

Asghar: He has not lost your pen intentionally. I think you should forgive him. You should show tolerance. اس نے ارادتا آپ کا قلم گم نہیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ رواداری کا مظاہرہ کریں۔

Aslam: Yes, you are right! "I forgive him." ہاں آپ درست کہتے ہیں "میں اسے معاف کرتا ہوں۔"

Imran: Thank you brother, I shall remember this act of tolerance, practised by you. بھائی آپ کا شکریہ۔ میں آپ کی طرف سے رواداری کی مشق کرنا کبھی نہیں بھولوں گا۔

F: Change the following sentences into negative and interrogative.

درج ذیل جملوں کو منفی اور سوالیہ میں تبدیل کریں۔

Example: He purchased a book.
He did not purchase a book. (Negative)

Did he purchase a book? (Interrogative)

Sentence	Negative	Interrogative
Aslam worked hard to complete the new project.	Aslam did not work hard to complete the new project.	Did Aslam work hard to complete the new project?
He sold mangoes.	He did not sell mangoes.	Did he sell mangoes?
Nuaman wrote a book.	Nuaman did not write a book.	Did Nuaman write a book?
He fought bravely.	He did not fight bravely.	Did he fight bravely?
He showed great tolerance.	He did not show great tolerance.	Did he show great tolerance?

For the Teacher:

- Ask the students to role-play the conversation given in oral communication skills. زبانی رواداری کی مہارت میں وی جی گفتگو کے بارے میں کردار پیش کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔
- Help them change sentences into negative and interrogative, also give them some new sentences for more practice. جملوں کو منفی اور سوالیہ بنانے میں ان کی مدد کریں۔ مزید مشق کے لیے انہیں مزید جملے بھی دیں۔